

Translatate the following passage Date 23:03:23

into English.

” اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی ، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں ، اگر دوزخ کا تصور آپ میں خوف خدا پیدا کرتا ہے ، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے ، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے پاؤں برائی کے لالچے پر جانے سے رُک جاتے ہیں تو پھر آپ صالح ہیں ۔ کچھ صالح بیوتے ہیں ، کچھ صالح بنتے ہیں ۔ صالح بیونا خوش قسمتی ہے ۔ صالح بننا مسلسل تذکیہ اور مجاہدے کا عمل ہے ۔ اس میں وقت لگتا ہے اور تکلیفیں بھی سینا پڑتی ہیں ۔“

Translation

If the world does not attract you, ^{if} the fear of Allah makes your eyes teary, ^{if} the concept of hell makes you God fearing, ^{if} you worship Allah ^{towards} the way it should be, ^{if} the virtue attracts you and your feet stop on going ^{you are} evil path, then you're righteous. Some are righteous, some become righteous. It is a fortune to be righteous. It is a constant process of purification and sacrifice to become righteous. It takes time and ^{one has to} go through many difficulties.